



## ۱۴۲۲م المصنفی ورچوکل یونیورسٹی

سرشناسه :	جزایری، سید حمید، ۱۳۴۲-
عنوان فاردادی :	درسنامه علم صرف، اردرو
عنوان و نام پدیدآور :	درسنامه علم صرف (علم صرف ۱) / مؤلفان سید حمید جزایری، فرامرز علیزاده؛ مترجم ذاکر حسین طاهری.
مشخصات نشر :	قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی <small>ع</small> ، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری :	۳۱۲ ص: جدول.
شابک :	۹۷۸-۶۰۰-۴۲۹-۱۳۹-۲
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
موضوع:	زبان عربی -- صرف
موضوع:	Arabic language -- Morphology
شناسه افزوده:	علیزاده، فرامرز
شناسه افزوده:	طاهری، ذاکر حسین، ۱۹۷۱ - م، مترجم
ردہ بندی کنگره:	PJ61۳۱/۴۵۰۴۶ ۱۳۹۶
ردہ بندی دیوبی:	۴۹۲/۷۵
شماره کتابشناسی ملی:	۴۵۵۸۶۶۵

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

### علم صرف ۱

ترجمہ: ذاکر حسین طاهری

طباعت اول: ۱۳۹۶ ش / ۱۳۳۸

ناشر: المصطفی ع ہیں الاتوئی ادارہ برائے ترجمہ و نشر

● چھپاپ: نارنجستان ● قیمت: ۱۵۵۰۰ ریال ● تعداد: ۳۰۰۰

## ملئے کاپتہ

کے ایمان، قم، خیابان معلم غربی (جنتی)، نیشن کوچ ۱۸

تلفن: +۹۸ ۲۵ ۳۷۸۳۹۳۰۹  
دورگار: داخلی ۰۵۷

کے ایمان، قم، بوار محمدیان، سرراه سالاریہ. تلفن: +۹۸ ۲۵ ۳۲۱۳۳۰۶

کے ایمان، قم، ساختمان ناشران، طبقہ سوم، پلاک ۳۰۸. تلفن: +۹۸ ۲۵ ۳۷۸۳۲۳۰۳



<http://buy-pub.miu.ac.ir/>



<http://pub.miu.ac.ir>



[https://telegram.me/pub\\_almoststafa](https://telegram.me/pub_almoststafa)

miup@pub.miu.ac.ir

ہم ان افراد کے مددگار اور شکرگذار ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی تالیف میں مدد فرمائی ہے

# علم صرف ا

تألیف:

سید حمید جنگری

فرامرز علیزاده

ترجمہ:

ذاکر حسین طاہری



المصطفیٰ بن

الاتوائی ادارہ برائے ترجمہ و نشر

## جنن ناشر

انقلاب اسلامی کی عظیم کامیابی اور ارتباطات کے عالمی سطح پر وسعت پانے سے مسلمان دانشمندوں کو انسانی علوم کے شعبہ سے متعلق سوالات اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے جو عصر حاضر میں حکومت سنبھالنے کی تینیں ذمہ داری کی بنا پر پیش آئے ہیں۔ ایسا دور کہ جس میں ملکوں کو ادارہ کرنے میں تمام پہلوؤں میں دین و سنت کی پابندی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی بنا پر دین کے شعبہ میں عالمی معیاروں اور خالص و عمیق افکار و نظریات کے روزآمد، منظم، عملی طور پر مفید اور جامع و عمیق مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ نیز دین کے شعبہ میں تحقیقات انجام دینے والے محققین کی تربیت اور انہیں فکری اخلاق اور محفوظ رکھنا اس شجرہ طیبہ کے معماروں بالخصوص رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله العالیٰ کے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

مغربی تہذیب و ثقافت کا سوشن میڈیا اور ارتباطات کے میدان میں عالمی سطح پر وسعت پانا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس موضوع سے لگاؤ رکھنے اور افراد اور محققین کو چاہئے کہ وہ بلند افکار اور اعلیٰ اقدار سے آشنا ہیں اور یہ اہم ذمہ داری مختلف تخصصی شعبوں کے ایجاد کرنے، جدید علمی متون تولید کرنے، علوم کے دائرہ کو وسیع کرنے اور طلاب کی منظم تعلیم و تربیت کے ذریعہ پوری ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ کبھی بنیادی مباحث کے انجام دینے اور تخصصی متون تدوین کرنے سے اور کبھی علمی مسائل کو زیر قلم لانے سے حاصل ہوتا ہے۔

تعلیمی مرکزاً یک منظم، قانونی اور جدید تعلیمی نظام کے سایہ میں ہی رشد کر سکتے ہیں۔ درسی نصاب اور تعلیم و تحقیق کے طریقہ کار پر نظر ثانی اور انہیں جدید تکنیکاً لوگی سے لیں کرنا علمی و تحقیقاتی مرکز کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔

جامعہ المصطفیٰ العالیہ کی ایک تعلیمی ادارہ ہونے کے ناطے اہم ذمہ داری غیر ایرانی طلاب کی تعلیم و تربیت ہے جس کے لیے اپنی کوشش کا عنوان مناسب درسی نصاب تالیف کرنا قرار دیا ہے اور دینی علوم میں مختلف موضوعات پر درسی نصاب کی تدوین اور اشاعت اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

## فہرست

۱۹ .....	مقدمہ .....
۲۱ .....	پہلا سبق: تعریف، موضوع اور فائدہ .....
۲۱ .....	علم صرف کی تعریف .....
۲۲ .....	علم صرف کا فائدہ .....
۲۲ .....	علم صرف کا موضوع .....
۲۲ .....	کلمے کی تعریف .....
۲۳ .....	نوت .....
۲۷ .....	دوسرा سبق: کلمے کی بناؤث .....
۲۷ .....	تفصیل .....
۲۷ .....	اصلی اور زائد حروف .....
۲۷ .....	اسم کی بناؤر بناؤث .....
۲۸ .....	فعل کی بناؤر بناؤث .....
۲۹ .....	نوت .....
۳۳ .....	تیسرا سبق: وزن .....
۳۳ .....	وزن کی تعریف .....
۳۳ .....	وزن کے قواعد .....
۳۳ .....	نوت .....
۳۷ .....	چوتھا سبق: سالم اور غیر سالم (۱) .....
۳۷ .....	تفصیل .....

## ۶ علم رفتہ

فہرست اقسام متعال ..... ۳۷	فہرست اقسام متعال ..... ۳۸
پانچواں سبق: سالم اور غیر سالم (۲) ..... ۳۹	پانچواں سبق: سالم اور غیر سالم (۲) ..... ۴۰
فہرست ..... ۴۱	فہرست ..... ۴۱
نوت ..... ۴۲	نوت ..... ۴۲
فہرست ماضی ..... ۴۲	فہرست ماضی ..... ۴۲
نوت ..... ۴۳	نوت ..... ۴۳
چھٹا سبق: فعل ..... ۴۵	چھٹا سبق: فعل ..... ۴۵
تفصیل ..... ۴۵	تفصیل ..... ۴۵
پہلی تقسیم ..... ۴۶	پہلی تقسیم ..... ۴۶
فعل کے صینے ..... ۴۶	فعل کے صینے ..... ۴۶
نوت ..... ۴۷	نوت ..... ۴۷
صینوں کا جدول ..... ۴۷	صینوں کا جدول ..... ۴۷
ساتواں سبق: اصل فعل ..... ۵۱	ساتواں سبق: اصل فعل ..... ۵۱
فعل ..... ۵۱	فعل ..... ۵۱
لازم اور متعددی ..... ۵۱	لازم اور متعددی ..... ۵۱
فعل لازم کو متعددی بنانے کا طریقہ ..... ۵۲	فعل لازم کو متعددی بنانے کا طریقہ ..... ۵۲
معلوم اور مجہول ..... ۵۲	معلوم اور مجہول ..... ۵۲
آٹھواں سبق: فعل ماضی ..... ۵۵	آٹھواں سبق: فعل ماضی ..... ۵۵
فعل ماضی ..... ۵۵	فعل ماضی ..... ۵۵
فعل ماضی معلوم کے صینے ..... ۵۵	فعل ماضی معلوم کے صینے ..... ۵۵
نوت ..... ۵۷	نوت ..... ۵۷
فعل ماضی کے صینے بنانے کا جدول ..... ۵۷	فعل ماضی کے صینے بنانے کا جدول ..... ۵۷
نواں سبق: ماضی معلوم (۲) ..... ۶۱	نواں سبق: ماضی معلوم (۲) ..... ۶۱
ضمیر ..... ۶۱	ضمیر ..... ۶۱
تفصیل ..... ۶۱	تفصیل ..... ۶۱
ضمیر کی تعریف ..... ۶۱	ضمیر کی تعریف ..... ۶۱

## نہرست ۷

دسوائیں سبق: مضارع معلوم (۱).....	۶۵
فعل مضارع.....	۶۵
مضارع کے صینے.....	۶۵
چیار ہواں سبق: مضارع معلوم (۲).....	۶۹
فعل مضارع ۲.....	۶۹
نوٹ.....	۶۹
شلائی مجرد کے فعل مضارع معلوم کے صینوں کی گردان.....	۷۰
فعل مضارع کے صینے بنانے کا جدول.....	۷۰
باز ہواں سبق: مضارع معلوم (۳).....	۷۵
خمائر فعل مضارع.....	۷۵
فعل مضارع کی شمیریں.....	۷۵
شلائی مجرد کے ابواب .....	۷۶
تیسرا ہواں سبق: امر معلوم .....	۷۹
فعل امر .....	۷۹
فعل امر بنانے کا طریقہ .....	۷۹
فعل امر مخاطب .....	۷۹
نوٹ.....	۸۰
فعل امر کے صینے بنانے کا جدول .....	۸۱
چودھواں سبق: فعل مجہول (الف).....	۸۵
ماضی مجہول .....	۸۵
بنانے کا طریقہ .....	۸۵
ماضی مجہول کے صینوں کی گردان .....	۸۶
مضارع مجہول .....	۸۶
صینوں کی گردان .....	۸۶
امر مجہول .....	۸۶
صینوں کی گردان .....	۸۷
پندرہواں سبق: فعل مجہول (ب).....	۹۱
نائب فعل .....	۹۱

فعل لازم کا مجهول ..... ۹۱	فعل لازم کا مجهول ..... ۹۱
نوٹ ..... ۹۲	نوٹ ..... ۹۲
نوٹ ..... ۹۲	نوٹ ..... ۹۲
متعددی بہ حرف جر سے ماضی مجهول کی گردان ..... ۹۲	متعددی بہ حرف جر سے مضارع مجهول کی گردان ..... ۹۲
متعددی بہ حرف جر سے امر مجهول کی گردان ..... ۹۳	ماضی میں فاعل کی ضمیریں ..... ۹۳
ماضی میں مفعول کی ضمیریں ..... ۹۳	ماضی میں مفعول کی ضمیریں ..... ۹۳
مضارع اور امر میں فاعل کی ضمیریں ..... ۹۴	مضارع اور ادغام کے قواعد (الف) ..... ۹۷
مضارع اور ادغام کے قواعد (الف) ..... ۹۷	مضارع اور ادغام کے قواعد (ب) ..... ۱۰۳
مضارع کی تعریف ..... ۹۷	ماضی معلوم کا جدول ..... ۱۰۳
ادغام کے شرائط ..... ۹۷	ماضی مجهول میں ادغام ..... ۱۰۳
ادغام کی اقسام ..... ۹۸	فعل ماضی معلوم میں ادغام ..... ۱۰۳
ادغام جائز ..... ۹۹	فعل امر اور مضارع مجروم میں ادغام ..... ۱۰۵
ستر ہواں سبق: مضارع اور ادغام کے قواعد (ب) ..... ۱۰۳	جدول ..... ۱۰۵
ادغام کے قواعد ..... ۱۰۳	فعل مضارع مجروم ..... ۱۰۶
فعل ماضی معلوم میں ادغام ..... ۱۰۳	اخبار ہواں سبق: مہوز ..... ۱۰۹
ماضی معلوم کا جدول ..... ۱۰۳	مہوز کی اقسام ..... ۱۰۹
ماضی مجهول میں ادغام ..... ۱۰۳	تخفیف قلبی واجب ..... ۱۰۹
ماضی مجهول کا جدول ..... ۱۰۳	تخفیف قلبی جائز ..... ۱۱۰
فعل مضارع مجروم ..... ۱۰۵	
جدول ..... ۱۰۵	
فعل مضارع مجروم ..... ۱۰۶	

تخفیف حدی واجب .....	۱۱۰
تخفیف حدی جائز .....	۱۱۰
نوٹ .....	۱۱۰
فعل ماضی .....	۱۱۱
فعل مضارع .....	۱۱۱
فعل امر .....	۱۱۱
نکتہ .....	۱۱۲
انیسوال سبق: ہمزہ لکھنے کے قواعد (۱) .....	۱۱۵
ہمزہ کے قواعد .....	۱۱۵
کتابت ہمزہ کے قواعد .....	۱۱۶
بیسوال سبق: ہمزہ لکھنے کے قواعد (۲) .....	۱۱۹
کتابت ہمزہ کے قواعد .....	۱۱۹
انیسوال سبق: معتل الفاء، مثال .....	۱۲۳
تفصیل .....	۱۲۳
اعلال کی تعریف .....	۱۲۳
اعلال کی اقسام .....	۱۲۳
مثال .....	۱۲۳
مثال کی اقسام .....	۱۲۳
مثال کے قواعد .....	۱۲۳
قاعدة کا دل .....	۱۲۴
نوٹ .....	۱۲۵
قاعدة کا دوم .....	۱۲۵
قاعدة کا سوم .....	۱۲۵
بانیسوال سبق: اجوف (۱) .....	۱۲۹
اجوف کی تعریف .....	۱۲۹
اجوف کی اقسام .....	۱۲۹
اجوف کے قواعد .....	۱۲۹
پہلا قاعدة .....	۱۲۹

۱۳۰	دوسرا قاعدہ.....
۱۳۰	تیرا قاعدہ.....
۱۳۰	چوتھا قاعدہ.....
۱۳۰	نکتہ.....
۱۳۳	تیسیواں سبق: اجوف (۲).....
۱۳۳	پانچواں قاعدہ.....
۱۳۳	چھٹا قاعدہ.....
۱۳۳	ساتواں قاعدہ.....
۱۳۴	نوٹ.....
۱۳۷	چوبیسیواں سبق: اجوف (۳).....
۱۳۷	اجوف میں فعل ماضی.....
۱۳۷	ماضی معلوم.....
۱۳۷	ماضی مجهول.....
۱۳۸	مضارع معلوم.....
۱۳۸	مضارع مجهول.....
۱۳۸	امر معلوم.....
۱۳۸	امر مجهول.....
۱۴۱	چھپیواں سبق: معقل، ناقص (۱).....
۱۴۱	ناقص کی تعریف.....
۱۴۱	ناقص کی اقسام.....
۱۴۱	ناقص کے قواعد.....
۱۴۱	پہلا قاعدہ.....
۱۴۲	دوسرا قاعدہ.....
۱۴۲	تیرا قاعدہ.....
۱۴۲	چوتھا قاعدہ.....
۱۴۲	پانچواں قاعدہ.....
۱۴۳	چھٹا قاعدہ.....
۱۴۳	ساتواں قاعدہ.....

چھیسوں سبق: مختل الام، ناقص (۲) .....	۱۳۷
ناقص کے قواعد .....	۱۳۷
ماضی معلوم .....	۱۳۷
ماضی مجہول .....	۱۳۷
مضارع معلوم .....	۱۳۸
مضارع مجہول .....	۱۳۸
امر معلوم .....	۱۳۸
امر مجہول .....	۱۳۸
ماضی مجہول .....	۱۳۹
مضارع معلوم .....	۱۳۹
مضارع مجہول .....	۱۳۹
امر معلوم .....	۱۳۹
امر مجہول .....	۱۴۰
ستائیکیسوں سبق: لفیف .....	۱۵۳
لفیف کی تعریف .....	۱۵۳
لفیف کی اقسام .....	۱۵۳
لفیف مقرر و .....	۱۵۳
ماضی معلوم .....	۱۵۳
لفیف مفروق .....	۱۵۳
مضارع معلوم .....	۱۵۳
کنٹ .....	۱۵۳
اٹھائیکیسوں سبق: قواعد اعلال بیچانے کا مقصد (۱) .....	۱۵۷
قواعد اعلال سے آشنائی .....	۱۵۷
ثقل کے اہم ترین اسباب .....	۱۵۷
اول: خود حروف عللت .....	۱۵۷
دوم: حروف عللت کی نوعیت .....	۱۵۸
سوم: حروف عللت کی جگہ .....	۱۵۸
چہارم: حروف عللت کی حرکت .....	۱۵۸

پنجم: حرکت کی نوعیت.....	۱۵۸
ششم: حروف علٹ کی حرکت کا نامناسب ہونا .....	۱۵۸
ہفتم: ماقبل کی حرکت کا نامناسب ہونا .....	۱۵۸
نٹ.....	۱۵۹
اتیسوال سینق: قواعد اعلال پچانے کا مقصد (۲) .....	۱۶۳
قواعد اعلال سے ثابت کا حل .....	۱۶۳
مندرجہ ذیل مثالوں میں غور فرمائیں .....	۱۶۳
نٹ.....	۱۶۳
اتیسوال سینق: وزن .....	۱۶۹
وزن کی تعریف .....	۱۶۹
کلمے کی اقسام .....	۱۶۹
نٹ.....	۱۷۱
اتیسوال سینق: فعل ماضی (۱) .....	۱۷۵
فعل ماضی .....	۱۷۵
فعل ماضی کی حالتیں .....	۱۷۶
اتیسوال سینق: فعل ماضی (۲) .....	۱۷۹
ماضی قریب .....	۱۷۹
ماضی قریب بنانے کا طریقہ .....	۱۷۹
ماضی قریب منفی .....	۱۷۹
ماضی بعید .....	۱۷۹
ماضی بعید بنانے کا طریقہ .....	۱۸۰
ماضی منفی بعید .....	۱۸۰
ماضی استمراری .....	۱۸۰
ماضی استمراری بنانے کا طریقہ .....	۱۸۰
ماضی استمراری منفی .....	۱۸۰
پہلی صورت .....	۱۸۰
دوسرا صورت .....	۱۸۰

تینیسوں سبق: فعل مضارع (۱).....	۱۸۳
تفصیل .....	۱۸۳
پہلی حالت .....	۱۸۴
دوسری حالت: مضارع منفی .....	۱۸۵
تیسرا حالت: مضارع استفہامی .....	۱۸۶
حروف استفہام .....	۱۸۷
چوتیسوں سبق: فعل مضارع (۲).....	۱۸۷
چوتھی حالت .....	۱۸۷
حروف ناصب .....	۱۸۸
صیغوں کی گردان .....	۱۸۸
نوٹ .....	۱۸۹
صیغوں کی گردان .....	۱۸۹
پینتیسوں سبق: فعل مؤنّد (۱).....	۱۹۳
پانچویں حالت .....	۱۹۳
نون تاکید کی اقسام .....	۱۹۳
سامِ فعل مؤنّد میں لفظی تبدیلیاں .....	۱۹۴
کلتہ .....	۱۹۴
صیغوں کی گردان .....	۱۹۵
چھتیسوں سبق: فعل مؤنّد (۲).....	۱۹۹
مقدمہ .....	۱۹۹
معنی فعل مؤنّد میں لفظی تبدیلیاں .....	۱۹۹
(اجوف اور ناقص) .....	۱۹۹
کلتہ .....	۲۰۰
فعل مضارع مجہول کی گردان .....	۲۰۱
سینتیسوں سبق: شلاٹی مزید فیر (۱) .....	۲۰۳
تفصیل .....	۲۰۳
شلاٹی مجرد اور شلاٹی مزید فیر کے درمیان فرق .....	۲۰۴
شلاٹی مزید فیر کے مشہور ابواب .....	۲۰۴
اہم نکات .....	۲۰۵

۲۰۹	اڑتیسوں سبق: ملائی مزید فیہ (۲)
۲۰۹	ملائی مزید نیہ کے باقی ابواب
۲۱۳	امتالیسوں سبق: باب افعال (۱)
۲۱۳	تفصیل
۲۱۳	صیغوں کی گردان
۲۱۷	چالیسوں سبق: باب افعال (۲)
۲۱۷	لفیف کی گردان
۲۱۸	نوٹ
۲۲۱	امتالیسوں سبق: باب افعال (۳)
۲۲۱	باب افعال کے معانی
۲۲۱	تعددیہ
۲۲۲	نوٹ
۲۲۲	تعریض
۲۲۲	واجہت
۲۲۲	فاعل کازمان، مکان یا عدد میں داخل ہونا
۲۲۳	وقت کا پہنچنا
۲۲۳	مفعول کو صفت پر پانا
۲۲۳	سلب
۲۲۳	نوٹ
۲۲۷	پیالیسوں سبق: باب تفعیل (۱)
۲۲۷	باب تفعیل
۲۲۸	صیغوں کی گردان
۲۳۲	تینالیسوں سبق: باب تفعیل (۲)
۲۳۲	باب تفعیل کے معانی
۲۳۷	چوالیسوں سبق: باب مفہوم (۱)
۲۳۷	باب مفہوم
۲۳۷	باب مفہوم کے اہم نکات
۲۳۸	صیغوں کی گردان

یہنٹا لیسوں سبق: باب مفاضله (۲).....	۲۲۳
باب مفاضله کے معانی.....	۲۲۴
نوٹ.....	۲۲۵
چھیا لیسوں سبق: باب تفاصل (۱).....	۲۲۶
تفصیل.....	۲۲۷
باب تفاصل کے قواعد.....	۲۲۸
صیغوں کی گردان.....	۲۲۹
یہنٹا لیسوں سبق: باب تفاصل (۲).....	۲۵۳
باب تفاصل کے معانی.....	۲۵۴
نوٹ.....	۲۵۵
اڑتا لیسوں سبق: تکفل (۱).....	۲۵۶
تفصیل.....	۲۵۷
صیغوں کی گردان.....	۲۵۸
نوٹ.....	۲۵۹
انچاسوں سبق: تکفل (۲).....	۲۶۳
باب تکفل کے معانی.....	۲۶۴
بچاسوں سبق: باب انتخال (۱).....	۲۶۷
تفصیل.....	۲۶۸
باب انتخال کے قواعد.....	۲۶۹
نکتہ.....	۲۷۰
اکیادنوں سبق: باب انتخال (۲).....	۲۷۳
باب انتخال.....	۲۷۴
صیغوں کی گردان.....	۲۷۵
باب انتخال کے معانی.....	۲۷۶
نوٹ.....	۲۷۷
باڈنوں سبق: باب انتخال.....	۲۷۸
باب انتخال.....	۲۷۹

۲۷۷ .....	باب انفعال کی خصوصیات
۲۷۸ .....	صیغوں کی گردان
۲۷۸ .....	باب انفعال کے معانی
۲۸۱ .....	ترپواں سبق: باب انفعال و باب افعیال
۲۸۱ .....	باب انفعال
۲۸۲ .....	صیغوں کی گردان
۲۸۲ .....	دوا باب کی امتیازی خصوصیات
۲۸۲ .....	باب انفعال اور افعیال کے معانی
۲۸۵ .....	چونواں سبق: باب استعمال (۱)
۲۸۵ .....	باب استعمال
۲۸۵ .....	باب استعمال کے اہم نکات
۲۸۷ .....	صیغوں کی گردان
۲۹۱ .....	چھپواں سبق: باب استعمال (۲)
۲۹۱ .....	تفصیل
۲۹۱ .....	باب استعمال کے معانی
۲۹۵ .....	چھپواں سبق: رباعی مجردا اور رباعی مزید فیہ
۲۹۵ .....	ابواب رباعی مجرد
۲۹۵ .....	رباعی مجرد
۲۹۵ .....	صیغوں کی گردان
۲۹۶ .....	رباعی مزید فیہ
۲۹۶ .....	رباعی مزید فیہ کا پہلا باب
۲۹۶ .....	باب تعلُّل
۲۹۶ .....	صیغوں کی گردان
۲۹۶ .....	باب تعلُّل کا معنا
۲۹۹ .....	ستاؤواں سبق: رباعی مزید فیہ
۲۹۹ .....	رباعی مزید فیہ کا دوسرا باب
۲۹۹ .....	باب انفعال

۲۹۹ .....	صیغوں کی گردان.....
۳۰۰ .....	ربائی مزید فیہ کا تیسرا باب.....
۳۰۰ .....	بابِ اُفیال.....
۳۰۰ .....	صیغوں کی گردان.....
۳۰۳ .....	اٹھاؤں سین: فعل صناعی .....
۳۰۳ .....	فعل صناعی .....
۳۰۳ .....	فعل صناعی کی اقسام .....
۳۰۳ .....	نوٹ.....
۳۰۷ .....	انشوں سین: فعل کا اعراب (مغرب اور مení) .....
۳۰۷ .....	فعل مغرب و مení .....
۳۰۸ .....	فعل مغرب .....
۳۱۱ .....	مصادر .....